



---

مدحمة کا مجموعی جائزہ

---

کارلیسیا ڈی رائٹ (Carlecia D. Wright)، ڈائریکٹر  
مارشا ای. میورے (Marsha E. Murray)، معاون ڈائریکٹر

## I. دفتر برائے کاروباری مواقع کا جائزہ

دفتر برائے کاروباری مواقع [Office of Business Opportunity (OBO)]، جو ازیں قبل توثیقی کارروائی اور معاہدے کی تعمیل کا شعبہ (Affirmative Action and Contract Compliance Division) کے نام سے موسوم تھا، 2011 میں اس کا نام بدلا گیا تھا اور اس میں نئی جان ڈالی گئی تھی تاکہ مقامی کمپنیوں کے نمو کو فروغ دے کر، نیز تاریخی لحاظ سے پسماندہ کاروباری اداروں پر خصوصی توجہ دے کر ایک مسابقتی کاروبار کی آبیاری کرنے کے لیے میئر انائس پارکر (Annise Parker) کے مقصد کو حقیقت میں ڈھالا جائے۔

اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، OBO ان کاروباروں کا ربط تعلیم اور تکنیکی وسائل سے جوڑتا ہے اور ایسی پالیسیاں بناتا ہے جو سرکاری حصولیابی کے عمل میں ان کی کامیابی کو استحکام بخشتی ہیں۔ اس کے نظم و نسق کے علاوہ، OBO تین آپریشنل ڈویژنز اور ایک ڈپارٹمنٹل یونٹ پر مشتمل ہے: سرٹیفیکیشن (استناد)، کنٹریکٹ کمپلائنس (معاہدے کی تعمیل)، ایکسٹرنل افیئرس (خارجی امور) اور اسمال بزنس ڈیولپمنٹ (چھوٹے کاروبار کا فروغ)، اور ڈپارٹمنٹ سروسز یونٹ (محکمہ جاتی خدمات کی اکائی)۔

OBO اپنے سولیوشنز سنٹر کے توسط سے بھی کاروباری وسائل فراہم کرتا ہے، جو ایکسٹرنل افیئرس ڈویژن کا حصہ ہے۔ یہ ڈپارٹمنٹ سٹی کے بے یا پلے پروگرام (Pay or Play Program) کا بھی نظم و نسق کرتا ہے۔

### A. OBO کا مشن کا بیان

دفتر برائے کاروباری مواقع بیوسٹن شہر میں مقامی چھوٹے کاروباروں کے نمور اور کامیابی کو فروغ دے کر، نیز سرکاری حصولیابی کے عمل میں تاریخی لحاظ سے ناکافی استعمال شدہ گروہوں کی بامعنی شرکت کو یقینی بناتے ہوئے ان پر خصوصی توجہ دے کر بیوسٹن شہر میں ایک مسابقتی اور گوناگوں کاروباری ماحول تخلیق کرنے کے پابند عہد ہیں۔

### B. عاملہ اور انتظامی ٹیمیں

OBO کی عاملہ اور انتظامی ٹیمیں شعبے کو قیادت، نظم و نسق، اسٹریٹجک منصوبہ بندی، اور تکنیکی و انتظامی تعاون فراہم کرتی ہیں۔ عاملہ ٹیم سٹی کے ضابطہ فرامین، عاملہ کے احکامات، اور انتظامی طریق کار میں مذکور پالیسیوں کی تعمیل کو بھی یقینی بناتی ہے۔

### C. سرٹیفیکیشن ڈویژن

#### 1. سرٹیفیکیشن

سرٹیفیکیشن ٹیم سٹی کے سرٹیفیکیشن پروگرام جس کو باب 15، آرٹیکل 7 اور VI کے ذریعہ لازمی قرار دیا گیا ہے اور وفاقی ڈس ایڈوانٹیجڈ بزنس انٹرپرائز [Disadvantaged Business Enterprise (DBE)] کے سرٹیفیکیشن پروگرام، جس کو وفاقی ضوابط کا لائحہ عمل (Code of Federal Regulations)، حصہ 23 اور 26 کے سیکشن 49 کے ذریعہ لازمی قرار دیا گیا ہے، کا نظم و نسق کرتی ہے۔

#### A) سرٹیفیکیشن کی قسمیں

اسمال بزنس انٹرپرائز (SBE) نسل اور صنف سے غیر جانبدار ہے، اور اس کا اطلاق تعمیری صنعت میں صرف اہل فرموں پر ہوتا ہے۔

مائنارٹی بزنس انٹرپرائز (MBE) سرٹیفیکیشن کا اطلاق اقلیتوں کی زیر ملکیت اور ان کے ذریعے چلائی جانے والی فرموں پر ہوتا ہے۔

ویمین بزنس انٹرپرائز (WBE) سرٹیفکیشن کا اطلاق خواتین کی زیر ملکیت اور ان کے ذریعے چلائی جانے والی فرموں پر ہوتا ہے۔

معذور افراد سے متعلق بزنس انٹرپرائز (PDBE) سرٹیفکیشن کا اطلاق معذور سابق فوجیوں یا موجودہ طبی لحاظ سے طے کردہ دیرینہ یا مستقل خاصیت والی جسمانی یا ذہنی نقص کے حامل افراد کی زیر ملکیت یا ان کے ذریعے چلائی جانے والی اہل فرموں پر ہوتا ہے۔

ڈس ایڈوانٹیجڈ بزنس انٹرپرائز (DBE) سرٹیفکیشن ایک وفاقی استناد ہے اور اس کا اطلاق معاشی لحاظ سے محرومی کے شکار افراد کی زیر ملکیت یا ان کے ذریعے چلائی جانے والی فرموں پر ہوتا ہے۔

ایئر پورٹ کنسٹریکشن ڈس ایڈوانٹیجڈ بزنس انٹرپرائز (ACDBE) سرٹیفکیشن ایک وفاقی استناد ہے اور اس کا اطلاق معاشی لحاظ سے محرومی کے شکار افراد کی زیر ملکیت یا ان کے ذریعے چلائی جانے والی فرموں پر ہوتا ہے۔ صاحب مراعات ہوائی اڈوں پر سفر کرنے والے عوام کو اشیاء اور خدمات فراہم کرتے ہیں (جیسے ریٹیل، غذا اور مشروب، تشہیر اور مارکیٹنگ، وینڈنگ اور وائی فائی سروسز)۔

## 2. ہائر بیوسٹن فرسٹ پروگرام (HIRE HOUSTON FIRST PROGRAM)

OBO ہائر بیوسٹن فرسٹ پروگرام کے لیے سٹی بزنس اور لوکل بزنس کے عہدوں کا نظم و نسق کرتا ہے۔

میئر انائس پارکر نے بیوسٹن کے کاروبار کے لیے معاشی مواقع فروغ دینے اور ملازمت کی تخلیق میں تعاون کرنے کی ایک کوشش کے تحت ہائر بیوسٹن فرسٹ پروگرام تیار کیا۔ بیوسٹن شہر اس شہر کے بنیادی ڈھانچے کو برقرار رکھنے اور اس میں بہتری لانے اور عوام کو خدمات فراہم کرنے کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ کرتا ہے۔ ہائر بیوسٹن فرسٹ شہر کو مقامی کمپنیوں اور مقامی کارکنان کو ترجیح دینے کی لیاقت عطا کرتا ہے، تاوقتیکہ ان کی قیمت بندی تقابلی ہو۔

بیوسٹن شہر کی پالیسی یہ ہے، جیسا کہ ہائر بیوسٹن فرسٹ آرڈیننس، باب 15، آرٹیکل XI میں بیان کیا گیا ہے، کہ شہر کے اخراجات کی قوتوں کو اس انداز میں استعمال کیا جائے جو مالی ذمہ داری کو فروغ دے اور مقامی ٹیکس ڈالرز کی اثر انگیزی کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے یا یقینی بنانے کے لیے شہر کا صرفہ مقامی معیشت کا تعاون کرنے کے لیے ایک اقدام کے بطور شہری اور مقامی کاروبار کے لیے کاروباری مواقع فراہم کرتا ہے۔

## D. کنٹریکٹ کمپلائنس ڈویژن

کنٹریکٹ کمپلائنس ڈویژن کو سٹی کوڈ آف آرڈیننسز - باب 15 آرٹیکل II اور V کے ذریعے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس ڈویژن کی بنیادی ذمہ داریوں میں شہر، ریاست اور وفاقی آرڈیننسز کے ذریعے لازمی قرار دیے گئے قوانین اور ضوابط کے تحت بیوسٹن شہر کے سبھی پروجیکٹوں میں موجودہ اجرت کی شرحوں کا نفاذ، اس پر نگاہ رکھنا اور اس کو لاگو کرنا، اور MWSDBE اور مساوی ملازمت کا موقع [Equal Employment Opportunity (EEO)] کی تعمیل شامل ہے۔

یہ ڈویژن سبھی تعمیراتی بولیوں اور معاہدوں کے لیے مزدور کی تعمیل کی زبان کو فروغ دیتا ہے، اور بے روزگار، ٹھیکیدار کی دیگر دستاویزات کے آڈٹ کے ذریعے اور آن سائٹ دورے کر کے، جس میں تعمیراتی کارکنان کے ساتھ انٹرویوز بھی شامل ہیں ان معاہدوں کے EEO اور موجودہ اجرت کے سیکشنز کو نافذ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، کنٹریکٹ کمپلائنس آفیسرز اجرت کی عدم ادائیگیوں کا الزام لگانے والے کارکنان کی جانب سے دائر حلف ناموں کی چھان بین کرتے ہیں۔

کنٹریکٹ کمپلائنس ڈویژن ٹھیکیداروں کے سامنے تعمیل کے رہنما خطوط کی وضاحت کرنے اور موجودہ اجرت کی شرح اور MWSDBE کی تعمیل کے سلسلے میں سوالوں کا جواب دینے کے لیے ماقبل تعمیر کی سبھی کانفرنسوں اور میٹنگوں میں نمائندگی کرتا ہے۔ یہ ڈویژن سٹی کے سبھی معاہدوں کی حتمی قدر پیمانی میں سٹی کے متعدد محکموں کے ساتھ باہمی تعاون کرتا ہے۔

## E. ایکسٹرنل افیئرس اور اسمال بزنس ڈیولپمنٹ ڈویژن

ایکسٹرنل افیئرس ڈویژن کا مقصد شہر کے MWSDBE پروگرام کی آگہی پیدا کرنا اور استناد کے خواہاں اہل درخواست دہندگان کی تعداد بڑھانا ہے۔ ایکسٹرنل افیئرس ٹیم مارکیٹنگ کی ایسی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے ذمہ دار ہے جس میں دفتر برائے کاروباری مواقع کی برانڈنگ، یعنی کامیاب کہانیوں، معاہدہ کاری کے آئندہ مواقع اور پروگرام کے اپ ڈیٹس سے آراستہ ایک سہ ماہی خبرنامے کی تیاری شامل ہے۔ ایکسٹرنل افیئرس ٹیم موجودہ پارٹنرز بشمول معاشرتی گروپوں، ٹریڈز ایسوسی ایشنز، چنندہ عہدیداران، چیمبر آف کامرس اور ممبرشپ تنظیموں کے ساتھ کام کرتی ہے تاکہ ایسی پیشقدمیاں اور شراکتیں تیار کی جائیں جن سے OBO کے مشن، مقاصد اور اہداف پورے ہوں۔

### 1. کاروبار کا فروغ

#### (A) بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر

OBO مصدقہ فرموں کو خدمات جیسے: کاروباری تعلیم کے وسائل، مینٹر پروٹیج پروگرامز (mentor protégé programs)، اور تخصیصی کاروباری فروغ سے متعلق خدمات فراہم کرنے کے لیے معاشرتی پارٹنرز کے ساتھ باہمی تعاون کرتا ہے۔ بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر پر ہماری مصدقہ فرموں کی عملی اور مالی آمدگی کو بہتر بنانے کی ذمہ داری عائد ہے تاکہ ہدف پر مرتکز اور غیر ہدف پر مرتکز معاہدہ کے مواقع محفوظ کرنے میں کامیاب ہونے کے لیے ان کی مدد کی جائے۔

#### (B) OBO سولیوشنز سنٹر

OBO سولیوشنز سنٹر بیوسٹن میٹروپولیٹن علاقے میں کاروبار شروع کرنے یا چلانے کے خواہشمند تشکیل یافتہ اور ترغیب آمیز کارآموز کے لیے معلومات اور وسیلے کے ایک کلیئرنگ ہاؤس کے بطور کام کرتا ہے۔ خدمات میں بیوسٹن علاقے کے کاروبار کی عمل آوری پر اثر انداز ہونے والے متعلقہ شہر، کاؤنٹی، ریاستی، اور وفاقی ضوابط کی بابت مفت معلومات، پرمٹس اور لائسنسز کی بابت معلومات، تکنیکی اعانت؛ فائنانسنگ؛ SCORE کے کاروباری نظم و نسق سے متعلق مشاورتی کرم فرمائی کی فراہمی؛ لون فائنانسنگ اور لفٹ فنڈ کے لون پیکنگ میں اعانت کی کرم فرمائی؛ اور کاروبار سے متعلقہ کئی ایک عنوانات پر کاروباری ورکشاپس اور پروگراموں کی تخلیق شامل ہیں۔

## F. ڈپارٹمنٹ سروسز یونٹ

ڈپارٹمنٹ سروسز یونٹ مقامی، چھوٹے اور تاریخی لحاظ سے ناکافی استعمال شدہ کاروبار کے نمو اور کامیابی کو فروغ دیتا ہے اس طرح کہ قابل اطلاق تعمیر، پیشہ ورانہ خدمات اور خریداری کے معاہدوں پر بولیوں کے ساتھ جمع کروائے گئے MWBE کی شرکت کے منصوبوں، MWBE کے ہدف میں تخفیف اور کم ہدف کی درخواستوں اور مخلصانہ کوششوں کی درخواستوں کی قدر پیمائی کر کے شہر کے حصولیابی کے عمل میں بامعنی شرکت کو یقینی بنایا جائے۔ ڈپارٹمنٹ سروسز ہدف کے تعین میں شہر کے محکموں کو اعانت فراہم کرتا ہے اور ہدف پر مرتکز اور شہری و وفاقی لحاظ سے فنڈ یافتہ منظم معاہدوں پر مناسب اہداف کو منظور کرتا ہے۔

## G. بے یا پلے پروگرام

OBO بے یا پلے (POP) پروگرام کا بھی نظم و نسق کرتا ہے۔

POP پروگرام 1 جولائی 2007 کو کام کرنے کا ایک ایسا ماحول فروغ دینے کی کوشش کے تحت نافذ کیا گیا تھا جو شہر کے معاہدوں پر کام کر رہے ملازمین کے لیے ایک معیاری افرادی قوت کا تعاون کرتا ہے۔ POP پروگرام ایگزیکٹیو آرڈر 7-1 کے تابع ہے۔ یہ کھیل کا ایک ہموار میدان تخلیق کرتا ہے اور اپنی افرادی قوت کو صحت سے متعلق فوائد پیش کرنے کا انتخاب کرنے اور انتخاب نہیں کرنے والے حریف ٹھیکیداروں کے بیچ بولی کی کارروائی میں شفافیت کو بڑھاوا دیتا ہے۔ پروگرام ہذا اس امر کو تسلیم اور اس کا لحاظ کرتا ہے کہ بیوسٹن اور بیرس کاؤنٹی کے علاقے کے غیر بیمہ شدہ شہریوں کی نگہداشت صحت کے ساتھ وابستہ لاگت موجود ہے۔

بیوسٹن شہر کی پالیسی بعض ٹھیکیداروں سے یہ مطالبہ کرنے کی ہے کہ وہ یا تو ایک مقررہ رقم کا تعاون کریں جو بیوسٹن اور بیرس کاؤنٹی کے علاقے میں غیر بیمہ شدہ شہریوں کی نگہداشت صحت فراہم کرنے کی لاگتوں کو تلافی کے لیے استعمال کی جائے گی (PAY)، یا بعض ٹھیکیداروں سے بعض ملازمین کو نگہداشت صحت کے فوائد کی اقل سطح فراہم کرنے کا مطالبہ کریں (PLAY)۔

## II. بیوسٹن ایئر پورٹ سسٹم - دفتر برائے کاروباری مواقع (HAS-OBO)

بیوسٹن ایئر پورٹ سسٹم - دفتر برائے کاروباری مواقع (HAS-OBO) ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹ (DOT) اور فیڈرل ایویئیشن ایڈمنسٹریشن (FAA) کے مالی لحاظ سے اعانت یافتہ معاہدوں، نیز بر ہوائی اڈے پر مراعات کی بنیاد پر ایئر پورٹ کنسیشنائر ڈس ایڈوانٹیجڈ بزنس انٹرپرائز (ACDBES) کی شمولیت کی بابت ڈس ایڈوانٹیجڈ بزنس انٹرپرائز (DBEs) کے استفادہ کو فروغ دینے کے لیے موجود ہے۔ اس کے علاوہ، وہ شہر بیوسٹن کے HAS سے فنڈ یافتہ معاہدوں پر MWSBE کے استفادہ کو یقینی بناتے ہیں۔

HAS-OBO بیوسٹن ایئرپورٹ سسٹم کے معاہدوں اور حصولیابی کے مواقع تک رسائی کو بڑھانے اور اس میں بہتری لانے کے لیے موجود ہے۔ تعمیر، سہولت کی دیکھ ریکھ، پیشہ ورانہ خدمات، ایئر پورٹ مراعات، تشہیر اور گاڑی کرایہ سمیت HAS میں کاروبار کے بہت سارے مواقع ہیں۔ یہ مواقع درخواست برائے قابلیت (RFQ)، درخواست برائے تجویز (RFP)، یا تقابلی بولی کی کارروائی کی معرفت کمپنیوں کو دینے جاتے ہیں۔

## III. OBO کی اطلاع دہندگی اور MWSBE اور DBE سے استفادہ کرنا

اقلیت، خواتین کی زیر ملکیت، اور چھوٹے کاروباری انٹرپرائز کی کامیابی کو یقینی بنانے کی میئر انائس پارکر کی عہد بستگی کو مزید آگے لے جانے کے لیے، دفتر برائے کاروباری موقع پر سرکاری حصولیابی کے عمل میں بامعنی شرکت کے توسط سے ان تاریخی لحاظ سے ناکافی استعمال شدہ کاروبار کے نمو اور کامیابی کو فروغ دے کر بیوسٹن شہر میں تقابلی اور گوناگوں کاروباری ماحول تخلیق کرنے کی ذمہ داری عائد ہے۔ شہر کے معاہدوں میں ان گروپوں کی شرکت کی حد پر نگاہ رکھ کر، جزوی طور پر، اس پیشرفت کی پیمائش کی جاتی ہے۔

سٹی کوڈ آف آرڈیننس کے باب 15 آرٹیکل V کی تعمیل میں، شہر کے محکموں نے شہر کے MWSBE پروگرام کے لیے متعینہ استفادہ کے اہداف کو حاصل کرنے میں جو پیشرفت کی ہے اس کی تفصیل اس رپورٹ میں درج ہے۔ اس کے علاوہ، شہر کے زیر انتظام معاہدے پانے والی سبھی مصدقہ فرموں کی اطلاع دہندگی کے لیے، اس رپورٹ میں ان مصدقہ ڈس ایڈوانٹیجڈ بزنس انٹرپرائز کو دی گئی رقم بھی شامل ہے جنہوں نے ریاستہائے متحدہ کے ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن سے فنڈ یافتہ معاہدوں میں شرکت کی۔

### A. معاہدے کی قسمیں اور اہداف

معاہدہ جاتی اور غیر معاہدہ جاتی پروجیکٹوں کی تین قسمیں ہیں: تعمیری، پیشہ ورانہ خدمات اور خریداری۔ یہ پروجیکٹس یا تو ہدف پر مرتکز ہو سکتے ہیں، جس کے لیے MWSBE سے استفادہ کی ضرورت ہوتی ہے، یا غیر ہدف پر مرتکز ہو سکتے ہیں، جس کے لیے MWSBE سے استفادہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ درج ذیل شعبے ہدف پر مرتکز معاہدے کی قسمیں ہیں اور ان کے سالانہ شہر پیمانہ اہداف سٹی کونسل کے ذریعے طے کیے جاتے ہیں۔

#### 1. تعمیری

تعمیری معاہدوں کا تعلق صرف تعمیری پروجیکٹوں سے ہوتا ہے۔ تعمیری پروجیکٹوں کے لیے شہر پیمانہ ہدف 34% ہے۔

#### 2. پیشہ ورانہ خدمات

پیشہ ورانہ خدمات معاہدوں کے لیے ایک پیشہ ورانہ لائسنس (جیسے آرکٹیکٹ، انجینئر، اٹارنی، اکاؤنٹنٹ، وغیرہ) کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیشہ ورانہ خدمات کے لیے شہر پیما ہدف %24 ہے۔

### 3. خریداری

خریداری معاہدے سامانوں کی فراہمی اور غیر ذاتی یا غیر پیشہ ورانہ خدمات فراہم کرتے ہیں۔ خریداری کے لیے شہر پیما ہدف %11 ہے۔

ذیل میں خریداری کے معاہدوں کے تحت ذیلی زمرے ہیں۔ یہ غیر ہدف پر مرتکز معاہدے کی قسمیں ہیں اور سٹی کونسل کے ذریعے ان کے سالانہ شہر پیما اہداف طے نہیں کیے گئے ہیں۔ نوٹ: پرچیز آرڈرز اور P کارڈز پر مصدقہ وینڈرز کا استفادہ شہر پیما حصولیابی کے ہدف کو بڑھاتا ہے۔

پرچیز آرڈرز وینڈرز سے کی گئی متعدد خریداریوں کے لیے براہ راست آرڈرز ہوتے ہیں۔

P کارڈ خریداریاں بیوسٹن شہر کے پرچیزنگ کارڈز کا استعمال کر کے وینڈرز سے کی جانے والی براہ راست خریداریاں ہوتی ہیں۔

### 4. معاہدے سے استثناء

معاہدے سے استثناء ہدف پر مرتکز نہیں ہوتے ہیں اور ان کے تفویض کردہ اہداف نہیں ہوتے ہیں۔ درج ذیل سے معاہدوں سے استثناء کی عکاسی ہوتی ہے:

ہنگامی معاہدے - کوئی فوری ضرورت پوری کرنے کے لیے ہنگامی حالت کے سبب کیے گئے معاہدے۔

کلی ماخذ والے معاہدے - ایسی ضرورت پورا کرنے کے لیے کیے گئے معاہدے جو صرف ایسی فرم کے ذریعہ مہیا کرائے جا سکتے ہوں جو خصوصی نوعیت کی اور یا منفرد پروڈکٹس یا خدمات فراہم کرتی ہو۔

دستکشی: ایسے معاہدے جو دفتر برائے کاروباری موقع کی جانب سے صفر فیصد ہدف کے لیے منظور کیے جاتے ہیں جیسا کہ باب 15، آرٹیکل ۷، سیکشن 83-15 میں بیان کیا گیا ہے۔ کام انجام دینے کے لیے ان ٹھیکوں کے پاس S/MWDBEs بازار میں دستیاب نہیں ہوتے ہیں یا S/MWDBEs کے ضمنی ٹھیکیداروں کے استعمال کو شامل کرنے کے لیے معاہدے کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔

## IV. OBO کی پیشقدمیاں

### A. ٹویٹ مائی جابز بیوسٹن! (TWEETMY JOBS HOUSTON!)

ٹویٹ مائی جابز بیوسٹن! ایک موبائل پلیٹ فارم ہے جو TweetMyJobs سے تقویت یافتہ ہے جو موبائل اور سوشل میڈیا کو ضم کر کے تقرری میں انقلاب برپا کرتا ہے۔ ٹویٹ مائی جابز بیوسٹن! ایک ربط ساز سلسلہ ہے جو مقامی نوکریاں تقسیم کرتا ہے اور لائق ملازمت تلاش کنندگان کو آجروں سے ملاتا ہے۔

### B. لفٹ آف بیوسٹن! (LIFT OFF HOUSTON!) کاروباری منصوبے کا مقابلہ

**لفٹ آف بیوسٹن! بیوسٹن شہر کا پہلا کاروباری منصوبے والا مقابلہ ہے۔** کارچویانہ پیشقدمی کا مقصد بیوسٹن کے مکینوں کو کاروباری ملکیت کے اپنے اہداف حاصل کرنے کی ترغیب دینا جبکہ بیوسٹن کی معیشت کے مقامی نمو اور استقلال میں تعاون کرنا ہے۔

**لفٹ آف بیوسٹن! کا اہل ہونے کے لیے** کوئی کاروبار شروعاتی مرحلے میں ہونا ضروری ہے۔ شروعاتی مرحلے کی تعریف ایک سال سے کم عرصہ سے چل رہے کاروبار کے طور پر کی جاتی ہے جس کا محصول \$10,000 سے کم ہو۔ کاروبار کے مالکان لازمی طور پر بیوسٹن شہر کی حدود میں رہتے ہوں نیز ان کا کاروبار بھی بیوسٹن شہر کی حدود میں ہی واقع ہو۔ کیپٹل ون بینک (Capital One Bank) کلیدی کفیل ہے، جو مجموعی طور پر \$30,000 نقد انعام فراہم کر رہا ہے۔

## C. بلڈ اپ بیوسٹن (BUILD UP HOUSTON)

دفتر برائے کاروباری مواقع نے یونیورسٹی آف بیوسٹن شہر ڈاؤن ٹاؤن کے اشتراک سے 18 نومبر 2014 کو بلڈ اپ بیوسٹن پروگرام کا آغاز کیا۔ بلڈ اپ بیوسٹن ایک جامع، سات مہینے کا پروگرام ہے جو بیوسٹن شہر میں کاروبار کرنے کے ساتھ تعمیری خدمت کی صنعت میں چھوٹے کاروبار کی لیاقت اور کامیابی کو بڑھانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ پروگرام ایک غیر منفعتی تنظیم، انٹرائز (Interise) کے ذریعہ فراہم کردہ نصاب سے استفادہ کرتا ہے، جو تشکیل یافتہ چھوٹے کاروبار کے مالکان کو مسلسل نمو اور کامیابی کے لیے اپنی کمپنیوں کو اگلی سطح پر لے جانے میں ان کی مدد کرنے پر فوکس کرتا ہے۔

بلڈ اپ بیوسٹن کلاس روم کی بہترین تدریس کو حقیقی دنیا کے کیس اسٹڈیز کے ساتھ مربوط کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ ایک متعامل شکل ہے جو کاروبار کے مالکان کو اگلا قدم اٹھانے کے لیے ٹولز، طریقہ کار اور اعتماد فراہم کرتا ہے۔ بلڈ اپ بیوسٹن کے شرکاء سیکھتے ہیں:

- کاروبار کے فروغ کی حکمت عملیاں
- اسٹریٹجک منصوبہ بندی
- تخمینہ کاری اور بولی لگانا
- فائننس اور فائنانشیل مینیجمنٹ
- بونڈنگ اور بیمہ
- مارکیٹنگ اور سیلز
- انسانی وسائل
- زر اصل تک رسائی حاصل کرنا
- سرکاری ٹھیکے
- پروجیکٹ مینیجمنٹ

## V. اکثر مستعمل مخففات

**OBO** – دفتر برائے کاروباری موقع

**GFE** - مخلصانہ کوششیں

**OBOSC** – OBO سولیوشنز سنٹر

**ACDBE** – اینرپورٹ مراعات ڈس ایڈوانٹیجڈ بزنس انٹرپرائز

**HHF** – ہائر بیوسٹن فرسٹ پروگرام

**DBE** - ڈس ایڈوانٹیجڈ بزنس انٹرپرائز

**POP** – بے یا پلے پروگرام

• **CFR** – وفاقی ضوابط کا لائحہ عمل

**MWSBE** – اقلیت، خواتین اور چھوٹا کاروباری انٹرپرائز

**HUB** – تاریخی لحاظ سے ناکافی استعمال شدہ کاروبار

**PDBE** – معذور افراد سے متعلق بزنس انٹرپرائز

• TAC – ٹیکساس کا انتظامی کوڈ

HAS OBO - بیوسٹن ایئر پورٹ سسٹم دفتر برائے کاروباری مواقع

استناد کی قسمیں اور اہداف کی درخواستیں

MBE - MBE کے اہداف مقامی طور پر فنڈ یافتہ کسی بھی قسم کے معاہدے پر لاگو ہو سکتی ہیں۔

WBE - WBE کے اہداف مقامی طور پر فنڈ یافتہ کسی بھی قسم کے معاہدے پر لاگو ہو سکتی ہیں۔

SBE - SBE کے اہداف عام طور پر صرف تعمیر سے متعلقہ پروجیکٹوں پر لاگو ہوتے ہیں۔

DBE - DBE کے اہداف صرف یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن کے ان معاہدوں پر لاگو ہوتے ہیں جنہیں وفاقی مالی اعانت ملتی ہے۔

PDDBE - PDDBE کے استفادے کا استعمال سٹی کونسل کے طے کردہ شہر پیما اہداف کو بڑھانے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔

ACDBE - مصدقہ ACDBE فرم ان ہوائی اڈوں پر مراعات کے لحاظ سے شرکت کرنے کے اہل ہیں جنہیں وفاقی فنڈز ملتے ہیں۔

## VI. دفتر کے جائے وقوع

### A. دفتر برائے کاروباری مواقع

طبعی پتہ  
Bob Lanier Public Works Building  
611 Walker, 7<sup>th</sup> Floor  
Houston, TX 77002

فون 832.393.0600

فیکس 832.393.0646

اوقات صبح 8:00 بجے تا شام 5:00 بجے  
پیر - جمعہ

کونسل ڈسٹرکٹ I

### B. OBO سولیوشنز سنٹر

طبعی پتہ  
Bob Lanier Public Works Building  
611 Walker, Lobby Level  
Houston, TX 77002

فون 832.393.0954

فیکس 832.393.0952

اوقات صبح 8:00 بجے تا شام 5:00 بجے

پیر - جمعہ

I

کونسل ڈسٹرکٹ

.C بیوسٹن ایئر پورٹ سسٹم - دفتر برائے کاروباری مواقع

---

18600 Lee Rd.  
Humble, TX 77388

طبعی پتہ

281.233.7823

فون

281.230.8020

فیکس

صبح 8:00 بجے تا شام 5:00 بجے

اوقات

پیر - جمعہ

B

کونسل ڈسٹرکٹ